



سوال

(673) بخری کو ذبح کرنے کی نذرمانی تھی مگر اسے بچ دیا

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

میں نے اللہ کیلئے ذبیحہ کی نذرمانی تھی مگر مجھے اس کی قیمت کی ضرورت پڑ گئی جس کی وجہ سے میں نے اسے ذبح کرنے کی بجائے بچ دیا یہ چار سال پہلے کی بات ہے۔ اب میں اپنی نذر کو پورا کرنا چاہتا ہوں تو کیا اسی قیمت کا ایک جانور لے کر ذبح کر دوں جس قیمت میں میں نے پہلے جانور کو فروخت کیا تھا؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

یہ بخری جسے آپ نے اللہ تعالیٰ کے لئے ذبح کرنے کی نذرمانی تھی اگر آپ کی یہ نذر نذر اطاعت تھی تو آپ کیلئے اسے پورا کرنا واجب تھا اور متعین طور پر اسی بخری کو ذبح کرنا چاہئے تھا اس کا چننا غلط بلکہ حرام تھا لہذا اب آپ اسی طرح کی یا اس میں بہتر بخری اللہ تعالیٰ کے لئے ذبح کریں اور اپنی اس کوتاہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور تقرب الہی کے حصول کیلئے اس کے بدلے وار بخری ذبح کر کے اسے فقراء میں تقسیم کر دیں بشرطیکہ آپ کی نیت اللہ کی رضا کیلئے صدقہ کرنے کی تھی اور اب جو جانور ذبح کریں وہ اسی طرح کا یا اس سے بھی بہتر ہونا چاہئے جس کی آپ نے نذرمانی تھی۔

صداما عندی واللہ اعلم بالصواب

فتاویٰ اسلامیہ

ج 3 ص 537

محدث فتویٰ